



## سوال

عالم کی عابد پر فضیلت

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

میرا سوال یہ ہے کہ اہل علم کی عابد پر کیا فضیلت ہے۔؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اللہ تعالیٰ نے عالم کو غیر عالم پر فضیلت بخشی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۲۸ ... سورة فاطر

بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے (مکمل طور پر) ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں، بے شک اللہ بڑا زبردست اور مغفرت کرنے والا ہے)

اور ارشاد فرمایا

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۱۱ ... سورة المجادہ

تم لوگوں میں سے جو ایمان لائے اللہ ان کے اور (ان میں سے) (خاص طور پر ان کے) جنہیں علم دیا گیا ہے بلند کرتا ہے اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ سب کی خوب خبر رکھتا ہے)

اور ارشاد فرمایا

شَبَّهَ اللَّهُ الَّذِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَكُوتُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۱۸ ... سورة آل عمران

اللہ گواہی دیتا ہے کہ اُس کے علاوہ کوئی سچا حقیقی معبود نہیں، اور فرشتے (بھی) اور وہ جنہیں علم دیا گیا اور وہ اُس علم پر انصاف کے ساتھ قائم ہیں (بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ) اللہ کے علاوہ کوئی سچا حقیقی معبود نہیں اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے

